



JUBILEE MAYANAZ PLAN

SECURED FUTURE WITH
HANDSOME REWARDS

Having a high income doesn't necessarily translate into greater financial security unless you know exactly how and where to invest that income. In a volatile financial scenario, it's hard to take out the time to be able to fully understand the factors that can make your investments shrink or grow.

Jubilee Life Insurance's Jubilee Mayanaz Plan, a unit linked endowment plan, puts the collective knowledge of our financial experts to work for you. Aimed at optimizing your investments and increasing your returns, this plan is perfect for those who realize the need for secure investments and expert advice, without having to take the focus away from their core concerns, jobs and business.

Key Benefits

- Select any of the additional optional benefits to enhance your protection.
- Facility to withdraw the accumulated cash value of your funds either partially or fully.
- An option to cope with inflation by increasing your premium.
- Long term financial security for you and your family.
- **Policyholder can cancel the policy within 14 days from the receipt of the policy documents.**

How can I avail Jubilee Mayanaz Plan?

There are 3 simple steps that you need to follow:

Step 1	Decide the amount of Premium you would make. You can pay premium Yearly, Half-Yearly, Quarterly and monthly
Step 2	Choose the best coverage for your needs from the given options.
Step 3	Select any of the optional insurance benefits to enhance the plan.

Am I eligible for Jubilee Mayanaz Plan and what is the available term range?

If you are 18 years to 65 years old, you are eligible to avail the Jubilee Mayanaz Plan. The available term range is 10 years to 25 years (subject to Maturity at 75 years).

What protection does Jubilee Mayanaz Plan offer?

Jubilee Mayanaz Plan is especially designed to accumulate funds on a regular basis while providing life insurance protection. The funds accumulated through the plan may be used for purchase of a house, expanding business, retirement income or any other purpose.

Death Benefit

Jubilee Mayanaz Plan is a flexible plan that gives you the ability to select the Sum Assured of your choice.

You can determine the Sum Assured by multiplying your annualized basic premium amount by the selected cover multiple (offered from 5 to 25) depending on your savings and insurance needs. For example: if your annual premium is Rs. 250,000 and you have selected a cover multiple of 10, your total sum assured would be Rs. 250,000 x 10 = Rs. 2,500,000.

The maximum sum assured that can be selected under Jubilee Mayanaz Plan is up to the maximum cover multiple limit i.e. 25 (subject to limits defined by the Insurance Company).

If the life assured expires during the term of the plan, his/her beneficiaries will be entitled to the sum assured, or the cash value, whichever is higher.

Maturity Benefit

At the end of the term of the plan, the policy holder will receive the cash value accumulated during the term of the plan.

Note: To help you make a selection according to your savings and insurance needs, you may contact our representative at your nearest National Bank of Pakistan branch.

How much premium do I need to contribute to avail Jubilee Mayanaz Plan?

The premium can be paid yearly, half yearly or quarterly. Following is a breakdown of the minimum premium that can be made:

Frequency	Minimum Amount
Yearly	Rs. 250,000
Half Yearly	Rs. 125,000
Quarterly	Rs. 62,500
Monthly	Rs. 20,833

How will my premium be allocated?

Your premium made towards Jubilee Mayanaz Plan are to be allocated as per the below table:

Policy Year	1st	2nd	3rd & onwards
Percentage of premium allocated to unit account	63%	96%	100%

Will there be any Bonus Allocation in this plan?

Under Jubilee Mayanaz Plan, from the 6th year & onwards Jubilee Life Insurance will give its customers a Bonus allocation to the unit account. This will be provided according to the table below:

Policy Year	5th	7th	10th	15th	20th	25th
Year 6 & Onwards	3%	7%	15%	20%	25%	30%

How will my premium towards Jubilee Mayanaz Plan be managed by Jubilee Life Insurance?

Jubilee Life Insurance offers you the flexibility to direct your premium in part or whole to any of the fund(s) shown below:

Jubilee Life Balanced Fund	A fund designed to generate competitive long-term returns with balanced allocation in Equity, Government securities and other wide range of allowable asset classes. It is classified as fund having medium risk profile.
Jubilee Life Government Securities Fund	A fund designed to provide sustainable returns over long term with exposure in Government securities, Government securities related instruments and bank deposits. It is classified as fund having low risk profile.

Your Premiums, by default, will be allocated to **Jubilee Life Government Securities Fund** of the Jubilee Life Insurance. It offers competitive returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of different money market & government debt securities and does not

have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

Your invested premiums are managed by expert investment managers and backed by premium financial securities to ensure optimized returns with manageable risk exposure.

Your premiums will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life’s Funds are published in leading daily newspapers regularly and on Jubilee Life website: www.jubileelife.com

Can I cover myself against other risks and hazards?

Accidental Death	To provide you extra protection against accidental death, an additional amount will be paid under this benefit, if death of the policy holder occurs due to an accident.
Accidental Death or Dismemberment	This Benefit pays out in case of death or dismemberment, paying out complete or partial benefits depending on severity of the dismemberment.
Permanent Total Disability	This Benefit provides coverage in case of permanent and total disability.
Critical Illness	This Benefit advances the death benefit payable on basic plan in case of diagnosis of one of eighteen specified Critical Illnesses.
Waiver of Premium	Your contributions, from the next contribution due date, will be paid for, should you suffer an illness and disability and are not able to follow your own occupation or any other occupation suited by your knowledge, training or education qualification for at least 6 months.
Family Income Benefit	Provides you with the option of Family Income Benefit. Which insures that in future your family will be able to maintain a good standard of living through a secure income provided to your family in case of sad demise of the Policy holder.

Does Jubilee Mayanaz Plan allow me to withdraw the accumulated value of my fund(s)?

Yes, under Jubilee Mayanaz Plan, you have the flexibility to withdraw the cash value of your fund(s) - (either fully or partially) provided you have paid premiums in full for two years at the end of which you have the following options:

- **Partial Withdrawal** - If you need to withdraw your cash value for meeting some emergency needs, but do not want to surrender the policy, you can withdraw any amount (subject to minimum withdrawal

amount prescribed by Jubilee Life Insurance) after two policy years and after making two premiums payments – provided that the remaining cash value of your policy after withdrawal is greater than or equal to Rs. 250,000. The residual value floor may be reviewed by the company. The Sum Assured may be reduced by the amount of the Partial Withdrawal.

- **Full Policy Surrender** - After the completion of two policy years, given that two years' full premiums have been paid, you can surrender your policy. At the time of surrender, you will be paid the accumulated cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in low cash values.

Pricing Methodology

Jubilee Life follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

Are there other built-in features of Jubilee Mayanaz Plan?

- **Automatic Cover Maintenance** - After two years of paying the premium, in case you cannot meet your premium payments, you will still be eligible for the life insurance cover, as long as your plan's cash value is sufficient to pay for charges made against your policy.

What are the charges of Jubilee Mayanaz Plan?

In addition to reduced allocations in initial years, the following charges* are applicable on the plan:

- An investment management charge of 1.5% p.a. of fund value
- An administration fee of Rs. 245 per month
- 5% bid-offer spread
- Applicable mortality charges as per SECP filing
- Rider charges, based on the riders you have selected
- Fund Switching Charge: Rs. 500 after first four free switches in a year
- Premium Allocation Charge: Premium allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the premium received less percentage of the allocated premium for the year.

*All charges are reviewable by the company

Combating Inflation

In order to combat inflation, you have an option to select indexation in your policy. Selection of this option will increase your premium automatically each year by a limit specified by the company.

However, you retain the right to cancel the indexation if you wish.

Free Look Period

Jubilee Life Insurance offers a free look period of 14 days during which you can review your policy's terms & conditions, and cancel the policy if needed. Your premium will be refunded upon receipt of a written request within 14 days from the receipt of the policy documents. Please note that Jubilee Life Insurance reserves the right to deduct the expenses incurred on medical examination.

Disclaimer

- This product is underwritten by Jubilee Life Insurance Limited. It is not guaranteed or insured by National Bank of Pakistan or its affiliates and is not a product of the Bank.
- **This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).**

- The past performance of Jubilee Life funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither Jubilee Life nor National Bank of Pakistan will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by an Insurance Consultant. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Please refer to the Policy Documents for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Supplementary Benefits may be available if the life covered is aged 55 years or less nearest birthday at the time of issuance.
- National Bank of Pakistan is acting as an agent on behalf of Jubilee Life Insurance and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the insured customer(s), beneficiary(ies) or any third party.
- Jubilee Life Insurance is the underwriter and provider of this Insurance Policy and shall be responsible for policy servicing and lodgment, processing, & settlement of claims to the insured customer(s) or beneficiary(ies).
- The investment risk shall be borne by the Policy Holder and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the Participant if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.
- Please refer to company web site for target asset mix of the underlying fund:
(<https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>)

Contact Details

In case of complaint or further details, please contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited
 Head Office: 74/1 -A, Lalazaar, M.T.Khan Road,
 Karachi - 74000, Pakistan
 Tel: (021) 32120201, 35205094, Fax: (021) 35610959
 Email: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com
 UAN: (021) 111-111-554 SMS: Your Query to 8554
 Website: www.jubileelife.com



JUBILEE MAYANAZ PLAN
SECURED FUTURE WITH
HANDSOME REWARDS

آپ کی اچھی آمدنی ہونے کا مطلب یہ ہرگز ضروری نہیں کہ آپ بہتر مالیاتی ضمانت حاصل کریں جب تک آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ اس آمدنی کی کہاں اور کیسے سرمایہ کاری کی جائے۔ ایک تعمیری مالیاتی ماحول میں ان اسباب کا مکمل طور پر سمجھنا جن سے آپ کی سرمایہ کاری گھٹتی یا بڑھتی ہے ان کے لئے وقت نکالنا مشکل ہے۔

جوبلی لائف کا جوبلی مایہ ناز پلان جو کہ ایک یونٹ بکھڑا اینڈ وینٹ پلان ہے، ہمارے مالیاتی ماہرین کی مشترکہ علم کو آپ کیلئے بروئے کار لاتا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی سرمایہ کاری کو بہتر بنانا اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔ یہ پلان ان کے لئے موزوں ہے جو محفوظ سرمایہ کاری اور ماہرانہ رائے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بنیادی تقاضے، ملازمت اور کاروبار سے ان کی توجہ نہ ہٹے۔

مخصوص فوائد:

- اپنے تحفظ کو بڑھانے کے لیے کسی بھی اضافی اختیاری فوائد کا انتخاب
- اپنے فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو جو وی یا مکمل طور پر نکلوانے کی سہولت
- اپنی پیمائش میں اضافے کے ذریعے اپنے اخراجات پر قابو پانے کا اختیار
- آپ اور آپ کے خاندان کے لئے طویل مدتی مالی تحفظ
- پالیسی ہولڈر پالیسی و سٹاویزٹ کی وصولی کے 14 دن کے اندر پالیسی کو منسوخ کر سکتا ہے۔

میں جوبلی مایہ ناز پلان کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟

تین سادہ اقدام ہیں جنہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے:

پہلا قدم:	باقاعدہ ادائیگی کی رقم (قسط بیمہ) جو آپ ادا کریں گے کا تعین کریں۔
دوسرا قدم:	دینے گئے اختیارات میں سے اپنی ضرورت کے مطابق بہتر تحفظ کا انتخاب کریں۔
تیسرا قدم:	پلان کی قدر بڑھانے کیلئے اختیاری فوائد بیمہ میں سے کسی کا انتخاب کریں۔

کیا میں جوبلی مایہ ناز پلان کیلئے اہل ہوں اور دستیاب دائرہ میعاد کیا ہے؟

اگر آپ 18 سال سے 65 سال کی عمر تک کے ہیں تو آپ جوبلی مایہ ناز پلان حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ دستیاب دائرہ میعاد 10 سال سے لیکر 25 سال تک ہے (بشرطیکہ تکمیل میعاد 75 سال تک ہو)۔

جوبلی مایہ ناز پلان کو کتنا تحفظ پیش کرتا ہے؟

جوبلی مایہ ناز پلان خاص طور پر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہ نہ صرف تحفظ بیمہ زندگی فراہم کرتا ہے بلکہ باقاعدہ بنیادیوں پر فنڈز کو بڑھاتا ہے۔

فونگی فوائد:

جوبلی مایہ ناز پلان ایک کلیدار منصوبہ ہے جو کہ آپ کو آپ کی پسند کا ذریعہ منتخب کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ آپ زیر بیمہ کا تعین اپنی سالانہ بنیادی قسط بیمہ کی رقم کو منتخب کردہ متعدد تحفظ سے ضرب دے کر (عیش کردہ 25x5) جس کا انحصار آپ کی بچت اور ضروریات بیمہ پر ہے کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کی سالانہ بنیادی قسط بیمہ کی باقاعدہ ادائیگی کی رقم مبلغ اڑھائی لاکھ روپے (Rs. 250,000/-) ہے اور اگر آپ نے متعدد تحفظ (10) کا انتخاب کیا ہے تو آپ کا کل زیر بیمہ مبلغ 250,000/- روپے 10x برابر ہے۔ 2,500,000/- روپے ہوگا۔

جوبلی مایہ ناز پلان کی تحت زیادہ سے زیادہ متعدد تحفظ حد یعنی 25 تک ہے۔ زیادہ سے زیادہ زیر بیمہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہے (جس کی حدود کا تعین انشورنس کمپنی کی صوابدید پر ہے)۔ اگر بیمہ دار کا پلان کی میعاد کے دوران انتقال ہو جاتا ہے تو اسکے ورثاء کو زیر بیمہ یا نقد قیمت (کیش ویلیو) جو بھی زیادہ ہو حاصل کرنے کا استحقاق ہوگا۔

محمیل میعاد کے فوائد:

پلان کی میعاد کے اختتام پر پالیسی ہولڈر پلان کی میعاد کے دوران جمع شدہ نقد قیمت (کیش ویلیو) وصول کرے گا۔

نوٹ:

آپ کی بچت اور ضروریات بیمہ کے مطابق انتخاب کرنے میں مدد کیلئے آپ اپنے نزدیک ترین نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچ پر ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں۔

جوبلی مایہ ناز پلان حاصل کرنے کیلئے مجھے کتنی قسط بیمہ کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے؟

قسط بیمہ کی ادائیگی سالانہ، ششماہی یا سہ ماہی یا ماہانہ کی جاسکتی ہے۔ کم از کم قسط بیمہ کی باقاعدہ ادائیگی کرنے کا درجہ ذیل جدول ہے:

ادائیگی کا دورانیہ	کم از کم رقم
سالانہ	250,000 روپے
ششماہی	125,000 روپے
سہ ماہی	62,500 روپے
ماہانہ	20,833 روپے

میری باقاعدہ ادائیگی کی رقم کیسے مختص ہوگی؟

جوبلی مایہ ناز پلان میں گئی باقاعدہ ادائیگی کی رقم درج ذیل جدول کے مطابق مختص ہوگی:

پالیسی کا سال	سہ ماہی	دوسرا	تیسرا اور آئندہ
پونٹ میں مختص کردہ قسط بیمہ کی شرح	63%	96%	100%

کیا اس پلان میں کوئی بونس حاصل ہوگا؟

جی ہاں، آپ درج ذیل ٹیبل کے مطابق مختص بونس حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔

پالیسی کا سال	پانچویں	ساتویں	دسویں	پندرہویں	بیسویں	چھپیسویں
پونٹ اکاؤنٹ پر پریم کا مختص کیا گیا بونس	3%	7%	15%	20%	25%	30%

* بونس مختص شرائط و ضوابط سے مشروط ہیں۔

جوبلی مایہ ناز پلان میں گئی میری باقاعدہ ادائیگی کی رقم کا جوبلی لائف انشورنس کیسے انتظام کرے گی؟

جوبلی لائف انشورنس آپ کو براہ راست اپنی باقاعدہ ادائیگی کی رقم درج ذیل میں دیئے گئے کسی بھی فنڈ (فنڈز) میں جزوی یا مکمل طور پر جمع کرنے کا اختیار دیتی ہے۔

جوبلی لائف بلیسٹ فنڈ	یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے ایکویٹی، گورنمنٹ سیکیورٹیز اور قابل اجازت اثاثوں کی دیگر وسیع رینج میں متوازن مختص کے ساتھ مسابقتی طویل مدتی منافع پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پروف فائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔
جوبلی لائف گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ	یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے گورنمنٹ سیکیورٹیز، گورنمنٹ سیکیورٹیز سے متعلق آلات اور بینک ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کے ساتھ طویل مدتی پائیدار منافع کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی کم رسک پروف فائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

آپ کے پریمیم، بطور ڈیفالٹ، جوبلی لائف انشورنس کے جوبلی لائف گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ میں مختص کیے جائیں گے۔ یہ مختلف منی مارکیٹ اور سرکاری قرضوں کی سیکیورٹیز کے متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کر کے کم سے کم خطرے کے ساتھ، درمیانی مدت سے طویل مدتی تک مسابقتی منافع پیش کرتا ہے اور اس میں ایکویٹی سیکیورٹیز میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔

تاہم، آپ کے پاس اعلانیہ فارم پر دستخط کر کے ڈیفالٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے علاوہ اپنی پسند کے کسی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔ آپ کے سرمایہ کاری شدہ پریمیم کا انتظام ماہر انویسٹمنٹ مینیجرز کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور اس کو تعاقبیت پر پریمیم فنانسئل سیکیورٹیز سے ملتی ہے تاکہ بہترین منافع کو قابل برداشت خطرے کے ساتھ یقینی بنایا جاسکے۔

آپ کے پریمیم منصوبے کی مدت کے دوران سرمایہ کاری پر منافع حاصل کریں گے۔ منتخب شدہ مدت کے اختتام پر، آپ کو اپنی جمع شدہ نقد قیمت یکمشت میں مل جائے گی۔

نوٹ: ان فنڈز کی ماضی کی کارکردگی لازمی طور پر ان فنڈز میں سے کسی کی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔
 جوہلی لائف کے فنڈ کی قیمتیں تمام معروف روزناموں اور جوہلی لائف کی ویب سائٹ: www.jubileelife.com پر شائع ہوتی ہیں۔

کیا میں اپنے لئے دیگر خطرات کیلئے تحفظ حاصل کر سکتا ہوں؟

حادثاتی موت	اس معاہدہ کے تحت اضافی تحفظ بیمہ ادا کیا جائے گا اگر پالیسی ہولڈر کی موت کسی حادثہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔
حادثاتی موت یا معذوری	یہ معاہدہ قابل ادائیگی ہوتا ہے اگر موت حادثاتی ہو یا عضو کی علیحدگی جڑی یا مکمل طور پر ہو۔ اس کا انحصار عضو کی علیحدگی کی شدت پر ہے۔
مکمل دائمی معذوری	اس معاہدہ کے تحت دائمی مکمل معذوری کی صورت میں تحفظ زریعہ فراہم کیا جاتا ہے۔
کرنیکل انس	اس معاہدے کے تحت اٹھارہ (18) مہلک امراض میں سے کسی ایک کی تشخیص ہو جانے کی صورت میں بنیادی زریعہ پیشگی ادا ہوتا ہے۔
پریمیم کی ادائیگی میں چھوٹ	اس معاہدہ کے تحت آپ کی باقاعدہ ادائیگی کی رقم آئندہ واجب الادا باقاعدہ ادائیگی کی تاریخ سے ادا کی جائے گی۔ اگر آپ بیمار یا معذوری میں مبتلا ہو جائے ہیں اور اپنا پیشہ اختیار کرنے یا کوئی دوسرا پیشہ جو آپ کے علم، تربیت یا تعلیمی اہلیت کے موافق ہو اور کم از کم چھ (6) ماہ کیلئے اختیار کرنے کے اہل نہ ہوں۔
فیملی انکم بینیفٹ	اس معاہدہ کے تحت آپ کو خاندانی آمدنی کے فائدہ کا اختیار فراہم کیا جاتا ہے جو یقینی بنادیتا ہے کہ مستقبل میں آپ کا خاندان محفوظ آمدنی کے ذریعہ جو پالیسی ہولڈر کی ناگہانی وفات کی صورت میں آپ کے خاندان کو فراہم کی گئی تاکہ اچھا معیار زندگی برقرار رکھنے کے اہل ہو جائے۔

کیا جوہلی بیمہ پالیسی ہولڈر میرے فنڈ (فنڈز) کی جمع شدہ نقد قیمت (کیش ویلیو) نکالنے کی اجازت دیتا ہے؟

ہاں، جوہلی بیمہ پالیسی ہولڈر کے تحت اپنے فنڈ (فنڈز) کی نقد قیمت (کیش ویلیو) نکالنے کی چلک موجود ہے (آیا کہ مکمل یا جزوی) بشرطیکہ آپ مکمل دو (2) سالوں کیلئے پریمیم کی ادائیگی کر چکے ہوں جس کے آخر میں آپ کے پاس درج ذیل اختیارات ہیں۔

- **جزوی دستبرداری (نکالنا):** اگر آپ کسی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اپنی رقم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پالیسی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تو آپ پالیسی کے دو سال مکمل ہونے کے بعد یعنی رقم چاہیں نکال سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کی پالیسی کی بقایا کیش ویلیو کمپنی کی طرف سے مقررہ حد - 250,000 روپے کے برابر یا اس سے زائد ہو۔ کمپنی کیش ویلیو کی کم از کم رقم پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ زریعہ کو جزوی دستبرداری کی رقم سے کم کیا جاسکتا ہے۔
- **مکمل پالیسی دستبرداری:** اگر پالیسی کے دو سال مکمل ہونے پر آپ نے دو سال کا مکمل پریمیم ادا کیا ہو تو آپ اپنی پالیسی سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ دستبرداری کے وقت آپ کو فنڈز کی پیش ویلیو یکمشت ادا کی جائے گی تاہم پالیسی کے ابتدائی سالوں میں دستبرداری کے نتیجے میں کیش ویلیو کم ہو سکتی ہے۔

قیمتوں کے تعین کرنے کا طریقہ کار

جوبلی لائف فارورڈ ڈیوٹ کی قیمتوں کے تعین طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے۔ یہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کی تاریخ کے مطابق فنڈ میں فعال کارپوں کی تعداد سے تقسیم کر کے تیار کیا جاتا ہے۔

جوبلی مایہ ند پلان سے متعلق دوسری خصوصیات کیا ہیں؟

- خود کار تحفظ برقرار رہی: (دو سالوں کی اقساط بیمہ ادا کرنے کے بعد اگر آپ اقساط بیمہ کی ادائیگیاں نہیں کر سکتے تو آپ اس وقت تحفظ بیمہ زندگی کے اہل ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے پلان کی نقد قیمت (کیش ویلیو) آپ کی پالیسی کے اخراجات ادا کرنے کے لئے کافی ہیں۔

جوبلی مایہ ند پلان کے چارجز کیا ہیں؟

ابتدائی سالوں میں کم اضافے کے ساتھ درج ذیل ادائیگیاں منسوبے پر لاگو ہوں گی:

- فنڈز ویلیو کا 1.5% سالانہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج
- 245 روپے ماہانہ انتظامی فیس
- 5% بڈ آف سپرٹ
- ایس ای سی پی فائلنگ کے مطابق مورٹیلٹی چارجز کا اطلاق
- رینڈم منتخب کرنے کی صورت میں لاگورائیزرز چارجز
- فنڈ سو چنگ چارج ایک سال میں پہلے چار مفت سوئچ کے بعد 500 لاگو ہوں گے۔
- پرییم ایلوکیشن چارج: سالانہ پرییم مختص کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ پرییم کا سو فیصد سال کے لیے مختص کردہ پرییم کا کم فیصد وصول کرتا ہے۔
- * کمپنی تمام معاوضوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔

افراط زر کا مقابلہ:

افراط زر کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے پاس اختیار ہے کہ اپنی پالیسی میں اضافت کا انتخاب کریں۔ اس اختیار کے انتخاب سے کمپنی کی مقررہ مخصوص حد تک ہر سال خود کار نظام کے تحت آپ کی قسط بیمہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ، آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ اضافت منسوخ کر دیں۔

فری لکسیریٹ

جوبلی لائف آپ کو 14 دن کا فری لکسیریٹ پیش کرتا ہے جس کے دوران آپ پالیسی کی شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو پالیسی منسوخ کر سکتے ہیں۔ اگر پالیسی دستاویزات کی رسید کے 14 دن کے اندر تحریری درخواست موصول ہو جاتی ہے تو آپ کلیم واپس کر دیا جائے گا۔ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جوبلی لائف ملٹی معاہدے پر ہونے والے اخراجات (اگر کوئی ہوئی تو) کی کٹوتی کی مجاز ہے۔

اعلانات:

- یہ پروڈکٹ کو جوبلی لائف کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان یا اس سے ملحقہ کسی چیز کا ضمان نہیں ہو گا اور نہ یہ پروڈکٹ نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔
- یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس کے ہالگ الگ عناصر ہیں یعنی انشورنس پروڈکٹ اور انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا محدود پونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت فیڈ ای جاؤں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔
- جوبلی لائف کے فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی ضماندہی کرے۔ کوئی بھی کی گئی پیش گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کو ظاہر کرے۔ اس سلسلہ میں نہ تو جوبلی لائف اور نہ ہی نیشنل بینک آف پاکستان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔

- ذاتی اسٹریٹیشن ہمارے سیکرز کے نمائندے کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کی تفصیلات جاننے کے لئے اسٹریٹیشن میں دیے گئے نوٹس کا مطالعہ کریں۔
- براہ کرم مختلف قواعد و ضوابط کی تفصیلی تفہیم کے لئے پالیسی دستاویزات سے ملاحظہ کریں۔
- پالیسی کے اجراء کے وقت لائف انشور ڈی 55 سال یا کم ہونے کی صورت میں اسے اختیاری فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔
- جوبلی لائف انشورنس اس انشورنس پالیسی کا انڈر رائٹر اور فراہم کنندہ ہے اور پالیسی کی خدمت، لاجسٹکس، پروسیڈنگ اور انشور ڈسٹری بیوٹرز کے تصفیہ کا ذمہ دار ہے۔
- سرمایہ کاری میں نقصان حادثات پالیسی ہولڈر کی جانب سے برداشت کئے جائیں گے۔ پلان کی تکمیل کے وقت پالیسی ختم کرنے وقت اصل رقم بیان کردہ رقم کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پالیسی ہولڈر اگر پہلے سے طے شدہ فنڈ کے علاوہ کسی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔
- برائے کرم بنیادی فنڈ کے ٹاگ ایٹ اسٹیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں:
(<https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>)

رابطہ کی تفصیلات:

شکایات یا مزید تفصیلات کی صورت میں براہ کرم رابطہ کریں۔

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A لالہ زار ایم ٹی خان روڈ، کراچی-74000، پاکستان

فون: 35205094، 32120201 (021)، فیکس: 35610959 (021)

ای میل: complaints@jubileelife.com، info@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileelife.com

یو این: 111-111-021، ایس ایم ایس: اپنا سوال لکھیں اور 8554 پر راکھیں۔